



گیلانی ریسرچ فاؤنڈیشن کا رائے عامہ سروے

موضوع: "انرجی"

"گیس"

گیس کی لوڈ شیڈنگ: 79% پاکستانیوں کے مطابق گیس کی لوڈ شیڈنگ ان کے علاقے کا (بہت زیادہ یا تھوڑا بہت) شدید مسئلہ ہے، شہری علاقوں کے مقابلے میں دیہی علاقوں میں رہنے والے 9% زائد جوابدہندگان کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ شدید مسئلہ ہے:

گیلانی ریسرچ فاؤنڈیشن، گیلپ پاکستان

اسلام آباد، 14 مارچ، 2017


گیلانی ریسرچ فاؤنڈیشن کے ایک حالیہ سروے کے مطابق، 79% پاکستانیوں کے مطابق گیس کی لوڈ شیڈنگ ان کے علاقے کا (بہت زیادہ یا تھوڑا بہت) شدید مسئلہ ہے، شہری علاقوں کے مقابلے میں دیہی علاقوں میں رہنے والے 9% زائد جوابدہندگان کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ شدید مسئلہ ہے۔

سروے میں ملک بھر سے شماریاتی طور پر منتخب مرد و خواتین سے یہ سوال پوچھا گیا کہ، "آپ کے علاقے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ کتنا شدید ہے؟"، اس سوال کے جواب میں، 45% جوابدہندگان کے مطابق ان کے علاقے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ شدید مسئلہ ہے، 34% افراد کا کہنا ہے ان کے علاقے میں تھوڑا بہت گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، جبکہ 21% افراد کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں بالکل بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے۔

دیہی اور شہری علاقوں کا جائزہ:

شہری علاقوں میں رہنے والے 39% جوابدہندگان کے مطابق ان کے علاقے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ شدید مسئلہ ہے، 41% افراد کے مطابق تھوڑا بہت شدید مسئلہ، جبکہ 20% افراد کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں بالکل بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے۔ جبکہ اس کے برعکس دیہی علاقوں میں رہنے والے 48% جوابدہندگان کے مطابق ان کے علاقے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ شدید مسئلہ ہے، 30% افراد کے مطابق تھوڑا بہت شدید مسئلہ ہے، جبکہ 22% افراد کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں بالکل بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے۔ دونوں علاقوں کے نتائج کا موازنہ کیا جائے تو شہری علاقوں میں رہنے والے باشندوں کی نسبت دیہی علاقوں میں رہنے والے 9% سے زائد جوابدہندگان کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بہت زیادہ شدید ہے۔

"آپ کے علاقے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ کتنا شدید ہے؟"



Source: Gilani Research Foundation Poll (GRF Poll)

Field work conducted by Gallup Pakistan, the Pakistani affiliate of Gallup International Association

www.gallup-international.com; www.gallup.com.pk; www.gilanifoundation.com

گیلانی ریسرچ فاؤنڈیشن کا حالیہ سروے گیلپ انٹرنیشنل سے منسلک گیلپ پاکستان کی مدد سے کیا گیا۔ یہ سروے پاکستان کے چاروں صوبوں کی دیہی اور شہری آبادی کے 1728 مرد و خواتین سے 9 جنوری تا 16 جنوری 2017 میں منعقد ہوا۔ غلطی کے امکان کا تخمینہ شماریاتی طور پر تقریباً $\pm 2-3\%$ لگایا گیا ہے۔



Opinion Poll from Gallup Pakistan
The Pakistani Affiliate of Gallup International



Tuesday March 14, 2017

(2 Pages including this only Urdu version)

Gilani Research Foundation is a not for profit public service project to provide social science research to students, academia, policy makers and concerned citizens in Pakistan and across the globe.

Gilani Research Foundation is headed by Dr. Ijaz Shafi Gilani who pioneered the field of opinion polling in Pakistan and established Gallup Pakistan in 1980. Currently Dr. Gilani, who holds a PhD from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) and has taught at leading universities in Pakistan and abroad, is Chairman of Gallup Pakistan.

If you have any further questions regarding this poll, please feel free to contact us.

Best Regards,

Ms. Fatima Idrees
Phone: +92-51-2655630
E-mail: fatima.idrees@gilanifoundation.com

Disclaimer: *Gallup Pakistan is not related to Gallup Inc. headquartered in Washington D.C. USA. We require that our surveys be credited fully as Gallup Pakistan (not Gallup or Gallup Poll). We disclaim any responsibility for surveys pertaining to Pakistani public opinion except those carried out by Gallup Pakistan, the Pakistani affiliate of Gallup International Association. For details on Gallup International Association see website: www.gallup-international.com*



Daily Gilani Poll
2017



of Gallup Pakistan
(1980-2017)